

سم 7 نومبر 2020 کو جمعہ کو رات کا سب سے پہلا روزہ صلاحت

ہے کہ اگرچہ صلاحت ہے مگر روزہ اگرچہ

نہیں ہے۔ لیکن اگرچہ صلاحت ہے۔ مگر روزہ نہیں ہے۔

مگر روزہ صلاحت ہے۔ مگر روزہ نہیں ہے۔

میں جہل کھوں کے لئے روزہ نہیں ہے۔

مگر روزہ نہیں ہے۔

مگر روزہ نہیں ہے۔

مگر روزہ نہیں ہے۔

مگر روزہ نہیں ہے۔

مگر روزہ نہیں ہے۔

مگر روزہ نہیں ہے۔

مگر روزہ نہیں ہے۔

مگر روزہ نہیں ہے۔

مگر روزہ نہیں ہے۔

مگر روزہ نہیں ہے۔

مگر روزہ نہیں ہے۔

مگر روزہ نہیں ہے۔

بہار میں کھیتی باڑی کے لیے پانی کی ضرورت ہے
 اس لیے پانی کو محفوظ رکھنا ضروری ہے
 اس کے لیے کھیتی باڑی کے لیے پانی کو محفوظ رکھنا ضروری ہے

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 01. Health dept. H. | (4) Asha Worker. |
| 02. PHE (Jal Shakti) | (5) Agricultural |
| 03. Forest dept. H. | (6) A.W.W. (ICD) dept. |
| 04. CAPD. | (7) Education dept. |
| 05. Social and Water Conservation. | (8) Social Forest dept. |

پانی کو محفوظ رکھنا ضروری ہے
 اس کے لیے کھیتی باڑی کے لیے پانی کو محفوظ رکھنا ضروری ہے
 اس کے لیے کھیتی باڑی کے لیے پانی کو محفوظ رکھنا ضروری ہے

GIRISH

پانی کو محفوظ رکھنا ضروری ہے
 اس کے لیے کھیتی باڑی کے لیے پانی کو محفوظ رکھنا ضروری ہے

پانی کو محفوظ رکھنا ضروری ہے
 اس کے لیے کھیتی باڑی کے لیے پانی کو محفوظ رکھنا ضروری ہے

AB

AB. Majeed
 PHE

Pallavi
 MHP/CHO
 Health dept.

Shaheema Ji
 ASHA Worker.

Aftrooz Begum
 ASHA Worker

ASHA Begum
 ASHA Worker.

Signature
 2/11/22

Signature